



سوال

(334) طلاق کے لفظ کے استعمال میں تسامح روا نہیں ہے

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر تو میرے گھر سے نکل کر اپنے والد کے گھر گئی اور وہاں سوئی تو مجھ پر طلاق دینا لازم ہوگا یہ میں نے اس لئے کہا کہ ہمارے درمیان جھگڑا ہو گیا تھا لیکن یہ کہنے کے باوجود میری بیوی اپنے والد کے گھر چلی گئی لیکن پڑوسی اسے اسی دن لے کر میرے گھر آگئے اور وہ اپنے والد کے گھر نہ سوئی بلکہ اس رات مگرے گھر میں ہی سوئی تو سوال یہ ہے کہ کیا اس صورت میں قیہ قسم ہوگی اور مجھے کیا کرنا چاہئے تاکہ مجھے قسم کی وجہ سے گناہ نہ ہو؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں قارئین بلکہ تمام مسلمان بھائیوں سے یہ امید کروں گا کہ وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے اجتناب کریں اور طلاق کے استعمال میں تسامح سے کام نہ لیں کیونکہ اس کا معاملہ بہت عظیم ہے اور خطرناک ہے لہذا جب وہ قسم کھانا چاہیں تو اللہ کے نام کی قسم کھائیں یا خاموش رہیں طلاق کے ساتھ قسم کے حکم کے بارے میں خواہ وہ بیوی پر ہو یا کسی اور چیز پر اہل علم کا اختلاف ہے اکثر کے نزدیک یہ طلاق ہے اور قسم نہیں ہے لہذا قسم ٹوٹنے کی صورت میں بیوی کو طلاق ہو جائیگی۔

کچھ دیگر اہل علم کے رائے یہ ہے کہ طلاق کے ساتھ قسم سے اگر مقصود قسم ہو تو یہ قسم ہوگی اور اگر اس سے مقصود طلاق ہو تو طلاق ہوگی کیونکہ نبی اکرمؐ نے فرمایا ہے:

((إنما الاعمال بالنیات وإنما لكل امری ما نوى)) (صحیح البخاری)

”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کیلئے صرف وہی ہے جس کی وہ نیت کرے۔“

یہ سائل جس نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ اگر تو اپنے والد کے گھر جا کر سوئی تو تجھے طلاق ہے اگر اس سے اس کی غرض یہ تھی کہ وہ تاکید کے ساتھ اپنی بیوی کو گھر سے نکلنے سے منع کرنا چاہتا تھا تو اس سے طلاق واقع نہ ہوگی خواہ وہ گھر سے نکلے یا نہ نکلے لیکن اگر وہ گھر سے نکل جائے تو اس پر قسم کا کفارہ لازم ہوگا جو کہ دس مسکینوں کا کھانا کھلانا یا انہیں کپڑے دینا یا ایک گردن کا آزاد کرنا ہے اور اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو پھر مسلسل تین دن کے روزے رکھنا ہے۔

اگر سائل کا مقصد ان الفاظ سے طلاق تھا تو عورت کے گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں طلاق واقع ہو جائیگی اور اگر گھر سے باہر نہ نکلے تو طلاق نہیں ہوگی یا گھر سے نکلے اور پھر اس واپس لوٹ آئے اور گھر میں نہ سوتے تو پھر بھی طلاق نہیں ہوگی اور اگر یہ آخری طلاق ہو تو پھر یہ اپنے شوہر کے حلال نہ ہوگی حتیٰ کہ یہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔



هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

فتاوى اسلاميه

كتاب الطلاق : جلد 3 صفحہ 319

محدث فتویٰ